

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 158-164

شَعَائِرِ	جُنَاحَ	تَطَوَّعَ	يَكْتُمُونَ	بَيَّنَّ+هُ
ش ع ر	ج ن ح	ط و ع	ک ت م	ب ی ن + ضمیر
نشانوں میں	گناہ	خوشی سے کرے	وہ چھپاتے ہیں	بیان کر دیا ہم نے + اس کو
Symbols	Blame	voluntarily does	conceal	We made clear

أَتُوبُ	يُخَفِّفُ+ئِي	يُنْظَرُونَ	النَّهَارِ	الْفُلُكِ
ت و ب	خ ف ف	ن ظ ر	ن ہ ر	ف ل ک
میں + مہربان ہوتا ہوں	ہلکا کیا جائے گا	مہلت دیئے جائیں گے	دن	کشتیوں
I will accept repentance	will be lightened	will be reprieved	The day	The ships

تَجْرِي	فَ+أَحْيَا	بَثَّ	دَابَّةٍ	تَصْرِيفِ
ج ر ی	ح ر ف + ح ی ی	ب ث ث	د ب ب	ص ر ف
چلتی ہیں	پھر + اس نے زندہ کیا	اس نے پھیلا دیے	جانور سے۔ رینگنے والے	نیز گردش میں
Sail	Then giving life	dispersing	moving creature	directing

الرّیّج	السّحاب	المُسَخَّر
روح	س ح ب	س خ ر
هواؤں	بادل	جو مسخر کیے گئے ہیں
The winds	The clouds	The controlled

Arabic